

بچوں کے لئے بائبل
تحائف

ژتجی وری



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Janie Forest
Alastair Paterson

کے مطابق: Lyn Doerksen


ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔





خداين ڀيڻه اسرائيلی مصر منڙ پڇاوتھ ڪڍي،
موسىٰ بن لاج پيمَن عبادتس ڪن رهبري ڪرنی۔
تُمي بنووا ڪھ تاريڻي باٽھ تہ۔ "بہ گيو خداوند
سندِ باپتھ يمي سارسے پيٽھ فتح يابي پراو۔"
موسىٰ بن گيوو خدايه سنڙن سارنرے عنايڙن تہ
سارنرے رتن چيزن مطلق يمه تُمي اسرائيلين ڏتي۔


سند ايس ڪن



صحراہس (سیکلیو) منزی ترین دوہن
پکنہ پتہ لوّب تریشہ ہتیو لوکو اکھ
تلاب۔ مگر امیوک ٹیوٹھ وونی ہیوک نہ
یمو چیتھہ۔ عبادت کرنہ بدلہ لاگری
یمو لکو شکو کرنی۔

خدا اوس سیٹھاہ مہربان۔ تمی
بنوو یہوے آب چینس لایکھ۔






باسان اوس
يمن لؤكن
چھے پریتھ
چیزس متعلق

شکایتہ "اسہ اوس مصرس منتر کہین
چین دستیاب۔ یتہ مرو اسی بوچھ بوچھ
کران۔ "تم اسی نالان۔ امہ دوپہ شامس سوزی خداین
جاناور یمن ککلہ ونان چھ۔ لکورچہ تمہ آسانی سان۔




دویمہ دوہ صبحاً مے سوزکہ خداین مَنّ۔ یہ اَس اکہ
قسیمچ ژوٹ یتھ مانچھ مزاوس۔
پریتھ دوہ صبحاً مے اوس یم
سو مبراونہ موکہ مَنّ زمینہ پیٹھ
حاضر اسان۔




امہ سبیلہ اوس خدا پن
نین بندن اتھ سحر اوس
منز کھیوان تہ چیاوان۔



تم اسی خدایس پنے نو نو کہینہ باپتہ دوہے ازماوان۔ اکھترے
اسی کینہہ لکھ پنے باپتہ ہریمانہ من سو مبران۔ یودوے خدا
سند ٹاکار ونن اوسگہ ز من گڑھیو راتس منز خراب۔




یقین گریو راتک من اوس کمیو سٹی بڑتھ، سبات کہ دوہ
ورامے۔ ستمہ، امہ خاص دوہ اسی لوگھ آرام کران تہ کالک
من کھیوان۔



سحر اوس منتر گر خداين يمن
اسرائيلين راجھ راوٹ۔ امی دیوت
يمن غذا تہ تہ آب تہ۔ امہ
علاو گرنکہ دشمنن
نشہ تہ راجھ۔ ییلہ
عمالقیو يمن
پٹھ حملہ کور۔

اسرائیلیو زینہ
سارے لڈایہ بیتس
کالس موسیٰ بن
خدا سُنْد عاصہ
تھوڈ روٹ۔





خداین وون اسرائیلین یودوے توہی میانی حکم پالیو توہی
بنیو میانی خاص لکھ۔ "یتہ خدا ونہ اسی مانو تہ پالو۔"
لوکو وون موسیٰ ہس۔ تم واتی سینا کس بالہ دامنس تل
تہ رودی پرارونی ییلہ موسیٰ خدایس سمکھنہ گو۔





موسىٰ رود بالس
پيٺه ژتجهن دوپن
خدائيس ستي - خداين
ليکهي پني احکام
دون کنه پاترين
پيٺه - تمى وون
موسىٰ هس ز سُه
چه يژهان تسندي
بنده کمن اصولن
په گزهن
لسني بسني -



1- "توہہ گڑھنہ مے
بغار بیہ کانہہ خدا
آسن۔"

2- "توہی نُمیو نہ مے
بغار بیہ کنہ
آکارس۔"

3- "خدا وند سُنَد
ناو مہ ہیو ہنگہ
منگہ۔"

4- "سبات دوہہ
تہایو ژیتس تہ زانیو
متبرک۔"

5- "پننِس مائِس
ماجہ گریو احترام۔"



6. "توہی ماٲری
وون نہ کانہہ۔"


7. "توہی گریو
نہ بدکاری۔"

8. "توہی گریو نہ ژور۔"

9. "توہی وٲنیو نہ اٲز۔"


10. "توہی گریو نہ
لالچ۔"





يَلِّهَ زَن مَوَسَىٰ خَدَايسَ سِيَتِي
سِينَا كِس بَالَس پِيٲَه اوس
اسرائيليو گُر اكه و بگهٲر
حركته۔ تمو ديوت هارونس
حكم۔ ز سُه بناو اكه سونه
سُنْد وٲرِه۔ ته يمو لاج خدا
تراوته امس وٲرهي سنز
عبادت كرنى۔ خدا سپد
وارياه ناراض۔ موسىٰ ته
اوس ناراض۔





بيٺه موسىٰ بن وُزْه وُجه تہ
لوکھ تہ وُجهن وسان تہ
نزان۔ تمی پھڑاوی یم خدا
سندی پوترین پیٹھ لیکھتہ
کتبہ۔ نارو نار سپدتہ زھن
موسیٰ بن سوئے سھند پوتل
تہ پھڑاوتہ۔ امیچ پوزا کرن
والی گنہگار تہ اے ساری
قتل کرنہ۔



خداين سؤزي بدل ز گنه كتهبه - ته
موسى بس ونن اكه مقدس خمه
كهرا كرنه باپته - اكه بوڊ خمه يته
اندي اندي جنگله آسه گنده ته
يته منز خدا پننن بدن ستي آسه -
تمن اس اته خمس منز عبادت
گرنى - او بر لونگ ته نار مهلچ
موجود گي اس هاوان ز خدا
چه تمن ستي -



يٰٓاَيُّهَا كَنْعَانَسُ نَكِّهْ وَاَتِيْ مُوسٰى بِنِ سُوْرِيْ بَاہِ جَوْسُوْسُوْ سُو
زَمِيْنِ وُجْهِنِهٖ يُوْسُوْ خُدٰىنِ تَمِيْنِ وَعَدِّ كَرْمِيْزِ اَسِّ - سَارُوْمِيْ
جَوْسُوْسُوْ مَوْنِ زَمِيْنِ اَسِّ مَارِيْ مَنَزِّ - مَكْرِ يَسُوْعِ تِهٖ كَالِبِّ يَمِيْنِ
دَوْنِ اَوْسِ يَقِيْنِ زِ تَمِ هِيْكُنْ خُدَايَهٗ سِنْدِ يْزْهِنِهٖ يَهٗ زَمِيْنِ

حَاصِلِ
كَرْمِيْ -




باقی داه جوسوس اسی یمن پُر قوت
شہرن تہ اتہ زمینہ پیٹھ روزن والین
دیو قدن کھوژان۔ اسی پیکو نہ یہ
زمین حاصل کرتہ۔
تمن لوگ زنتہ ہٹس
کوند۔ تمن گو
مشتہے ز تہندی




خداین کم کم
عظیم کارنامہ گری
تم لکھ مصر منز
آزاد کرنہ بابتہ۔

لوکوگر بے بُروسہ دہن جوسوسن پٹھے پڑھ۔ تمودژ کریکہ تہ
گرکہ تیاری واپس مصرگڑھنیچ۔ تموکر اکھتے موسیٰ قتل گرنیچ
تہ کوشش۔



خداین گُر موسیٰ ہس زُوو رَآچھ۔ امہ پتہ وون اُمی لوکن "ژتجہن
وری ین روزیو توہی یمن سُبکلین منز در بدر۔ چہرا کالِب،
یسوع تہ تہندی شری اژن اتہ وعدِ کرنہ امژ زمینہ منز یوسہ توہہ
ناپسند
گرو۔"



ژتجی ؤری

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

ہجرت 15 - 34

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:
پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

